



AHMADIYYA GAZETTE (Canada)

P.O. Box 1183, Station "B", Mississauga, Ontario

274-3735 275-4145

Editor: Mubarak A. Khan
Vol. IX

December - 1976

Sub-Editor: Zakaria Virke
No. XII

JESUS OF NAZARETH and AHMAD OF QADIAN

(a) As regards the times marked by the advent of each: both advents are followed by a millennium - the advent of Jesus of Nazareth by the negative millenium of the devil's imprisonment (cf. Revelation xx) and to the advent of Ahmad of Qadian by the positive millenium of the Kingdom of God.

(b) As the political circumstances; just as the Jewish Messiah appeared in Palestine when it was subject to the Roman Government, so the Mughul Messiah has appeared in India while it is subject to the British Government.

(c) As regards moral and religious conditions: The Mirza Sahib draws a rather impressive parallel between the moral and religious needs which 1900 years ago required the presence of Jesus Christ, and the same needs today both in Islam and in Christianity, which, with equal insistence, call for the promised Messiah. Morally the times are out of joint. The special sins of Christendom are drunkenness, prostitution, and gambling; those of Islam, the ghazi spirit, immorality, lack of love. Religiously, the conditions of things is no better. Islam is cursed with the doctrine of Jihad, a bloody Mahdi, and tomb worship; Christianity, with such false views as the deification of Jesus Christ, belief in His atoning death and in His literal second coming. Such evils 'call for reformer' to rebuke the immoralities of the age and to arbitrate between the different religions.

(d) As the regards the Mission: The Mirza Sahib claimed to be, like Jesus Christ, a divinely-appointed mediator between God and man, and so a true intercessor with God for man. To sum up, the Mirza Sahib claimed to be the spiritual leader of his age, the mediator between God and man, the promised Mahdi or the spiritual warrior of God, the Hakam or divinely-sent arbitrator, the second Adam, the True Ahmad or spiritual manifestation of Prophet Mohammad, the promised Messiah, and metaphorically a manifestation of deity.

H.D. Griswold in the Moslem World of October 1912

printed from Hartford, Connecticut U.S.A.

Ahmadiyya Printing Press, Toronto, Ontario Canada

NEWS FROM RABWAH

Latest daily 'ALFAZL' reports that Hazrat Ameerul Mominin Khalifatul Masih III, our beloved spiritual leader, with grace of Allah, is feeling well. Alhamdulillah. All members across Canada, are requested to kindly continue praying for health and long life of Hazoor.

We have not received any details of our Jalsa Salana at Rabwah, yet. We hope and pray that this blessed gathering, which was attended by thousands of our brothers and sisters from all over the world, was a great success. In our next issue, however, we will give you some details of Jalsa Salana . Inshaallah.

LOCAL NEWS

Eid was celebrated here in Toronto on Dec.2/1976 at Central Y.M.C.A. In spite of this being a working day, many of our brothers and sisters attended this occasion. Eid prayers were lead by Br. Isa Jan Khan who read Khtba-e-Eid in Urdu and English.

Following Saturday Eid Milan Party was held at the same place. This function was attended by our members and their families from Toronto and vicinity. Our Sisters had prepared delicious food. We take this opportunity and thank them for all the trouble. We are also grateful to all those brothers who extended their help and co-operation . May Allah bless you all.

It was indeed a pleasure and honour to have Br. Hafiz Quadratullah at our Eid Milan Party. He is here on a short private visit and presently is with his son Br. Azizullah at Montreal. Hafiz Sahib has been a dedicated Missionary of the Movement for a very long time. We welcome him.

Also at the party were some of our Bazurgan-e-Jamaat (Senior members of the movement). Amongst them was Br. Arjumand Khan Sahib who has recently recovered from a serious illness. It was a pleasure and may Allah bless them all.

FINANCIAL SECRETARY JAMAAT AHMADIYYA TORONTO.

Please note that Br. Abdul Bari Ahmadi, our Financial Secretary of Toronto Jamaat has left for Alberta and President of Toronto Jamaat has nominated BR. HABIBULLAH TARIQ as the new Financial Secretary of Toronto Jamaat. This has been approved by Br. Abdul Aziz Khalifa, National Amir Canada.

Members of Toronto Jamaat are requested to kindly send their contributions from now onward to:-

Br. Habibullah Tariq,
Financial Secretary Toronto Jamaat,
720, Trethewey Dr.,
Apt. # 1104
TORONTO, Ontario. Tel. #249-5413

President of Toronto Jamaat has asked us to extend his gratitude and thanks to Br. Abdul Bari for performing his duties with zeal and dedication. May Allah bless him. Amin

MONTHLY MEETING TORONTO JAMAAT

Please note that due to long week end, our Next Monthly meeting and that of Lajna, Atfal and Nasirat, will be held on Sunday January 9/1977 at 2 p.m. at Central Y.M.C.A., College St. Toronto.

PLEASE BE PUNCTUAL

CHRISTMAS IS COMING OR
IS IT OVER

Is this the year 1976, and is Christmas just 10 days away? Not so says British physicist David Hughes. It's really 1983, and we should have celebrated Christmas last October.

This may be a bit dizzying, but Hughes, writing in the British magazine Nature, makes a logical case for it.

The Christmas calendar, in which years are dated from the birth of Christ, was established more than 500 years after that event. The monk Dionysius, who devised the idea, believed that Christ was born in the year 753 of the Roman calendar then in use, and this was made the Year One of the new era, ANNO DOMINI.

Hughes argues that in fact Christ was born 7 years earlier. Astronomical calculations show that in 7 B.C. there was an extraordinary conjunction of planets which may well have the 'star' which the THREE WISE MEN followed. Roman records also show that it was around this period that the Emperor Augustus imposed his tax on the whole Roman Empire, which required Joseph and Mary to go to Bethlehem to register. Finally, the Bible says that Jesus was born in the reign of KING HEROD, and Herod died 4 BC.

Hughes also questions the traditional date of the first X-mas. December 25. The Bible speaks of shepherds watching their flocks by night in the field. But in Palestine, the frost has set in by December, and sheep cannot be pastured; it is also the lambing season. So the flocks would have been in the fold and there would have been no shepherds in the fields.

The real date, he believes, was sometime in October and December 25 was adopted centuries later because it coincided with an ancient pagan festival in honor of the sun.

There would be something attractive in Ontario at least about having Christmas in October. The shopping and celebrating would surely be more pleasant at the height of the Indian summer rather in the cold and slush of December.

But the rest of Hughes' s revised chronology is a bit disturbing. If this is really 1983, then what starts next month must be the dread year 1984.

Editorial of the The Toronto Star, Dec 15/76

.....
Circumcision of a new convert to Islam:

Question: Is it compulsory for a new convert to Islam to undergo an operation known as circumcision? Why is the Holy Quran silent on the question of circumcision?

Answer: Every Muslim male child should be circumcised, following the tradition of Abraham, Father of the Prophets. But every convert to Islam who is grown up or advanced in age may not be circumcised. There is no historical or traditional evidence to show that all non-Muslim converts were circumcised in the time of the Holy Prophet, or his successors.

On the contrary, we read in the traditions that a number of Romans and Africans embraced Islam but none of them was ever asked to undergo circumcision.

Extracted from THE GUIDANCE, July/August 1976
official publication of our famous Mission in Ghana.

.....

LOOK OUT HE WANTS YOU

By Joseph Mancini: An elderly, turbaned man with a Santa Claus beard and an almost perpetual smile says he has come from Pakistan to convert every American to the religion of Islam.

Hazrat Mirza Nasir Ahmad, spiritual leader of the Ahmadiyya Movement in Islam Inc., held a press conference at the Waldorf-Astoria the other day to announce his arrival and declare his movement's mission "to win every heart which beats in the United States".

The khaki-clad 60 years old Oxford graduate, whose evangelical Muslim sect claims more than 10 millions followers worldwide, admitted it might take many years to accomplish this 'long-range goal'. But Ahmad added that he was a patient man.

LOVE AND AFFECTION:

"We will win these hearts with love and affection" he said, pausing to smile between the phrases. "And when people realize this is the reality of our ways, then they will join us".

Surrounded by a handful of followers and a dozen reporters in the 33rd floor hotel suite, Ahmad sat on a velvet couch beneath a pastoral oil in a gilded frame and faced questions for more than an hour. Communism, capitalism and Christianity have all failed, he said, and the religion of Islam is a "perfect and positive answer to the spiritual, social and political problems" of the western hemisphere.

Ahmad - reputedly the grandson and third elected successor of Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, who founded the Movement in India in 1889- is scheduled to preach these writings in several cities in the U.S. and Canada over the next three weeks. He reportedly undertook the journey, his first ever to the West, at the invitation of U.S. Ahmadiyya communities in more than 20 North American cities.

The sect with national headquarters in Washington D.C. was introduced into this country in the 1920s, according to pamphlets distributed by the group, but there are only an estimated 1000 U.S. adherents. The movement's world centre is in Rabwah Pakistan, and it claims hundred of mosques hospitals and schools around the world.



LETTER TO THE EDITOR

Ijaz Ahmad Qamar, Ph.D.
Winnipeg, Manitoba, Canada

The Editor, Ahmadiyya Gazette
Toronto, Ontario.

Assalamo-alaikum, I am very excited and overjoyed to learn that a good piece of land has been purchased in Toronto by the Ahmadiyya Jamaat of Canada for building a mosque and Community Centre.

First of all we should bow our heads and hearts to Almighty Allah who bestowed His favours on us to initiate the task of the propagation of Islam on us in this great country in a concrete fashion. Secondly, we should compliment and pay tributes to our Imam Hazrat Mirza Nasir Ahmad whose recent visit to Canada proved a blessing and whose leadership is a constant source of inspiration for all of us. May Allah help us to take the message of Islam under his guidance to the remotest and farthest corners of the earth.

Thirdly, all those who were instrumental in procuring the land under the personal supervision of our National Amir Brother Abdul Aziz Khalifa, should be thanked and their efforts fully appreciated in this monumental task. May Allah bless him and all of his associated. I pray to Allah for His unlimited and choicest blessings for the tasks ahead of us i.e. the actual erection of the mosque and keeping up the task of the spreading the message of the true interpretation of Islam.

Towards the objectives of collecting funds of for the construction of the mosque in Toronto, I AM SENDING A CHEQUE OF \$ 100/- as first instalment of my pledge. As the project progresses I shall inshallah contribute more towards the mosque fund. There is no other Ahmadi brother in this city, otherwise I would have approached him for the contributions.

In the end I appreciate the efforts of the editors of the Ahmadiyya Gazette who spend their time and efforts to bring the news of the Jamaat to us who are sitting far away in the cold country. Though the climate is quite severe around here, the monthly news-letter keeps us warm and close to Toronto and other parts of Canada as well as to the Centre.

May Allah bless you one and all. According to one saying the biggest room in the world is the room for improvement, non-the-less your efforts deserve our good wishes and best of luck for bringing out the Gazette regularly.

Wassalam,

.....

Dr. Montgomery Watt - and - Islam.

My interest in Islam began with a personal contact. In the autumn of 1937 a veterinary student from Lahore came to share my flat for six or eight months. He belonged to the

QADIANIYA AHMADIYYA

and was rather argumentative; and the arguments which began over the supper-table aroused my interest in the religion of Islam. Thus in a sense my contact with Islam began with a dialogue. I had the impression too, that I was confronting not just this individual, but a whole centuries-old system of thought .

Preface to the book 'Islamic Revelation in the Modern World - Edinburgh Uni. Press 1969.

.....

The liberation of Islam:

The mulla's bigoted mind, created hatred among the people of the world, which was absolutely un-Islamic and against the purpose of prophet Muhammad's message. We hear today discourses and challenges from the mulla's not only against these great teachers but also against free-thinkers and learned men of our own religion. One mulla is terribly jealous of another. To retain his overlordship he creates a superstitious reverence for himself among the people. He belittles , as much as possible, faiths and opinions other than his. Let us liberate ;islam from the clutches of mullas.

by Farid Jafri.

copied from ' Islam in India and Pakistan'

Murray Titus 1980 Ph.D. thesis

.....

حجرات

از قلم ضیاء حسن محمد خاں صاحب عارف نائب وکیل البتہ ریلوے

خدا تعالیٰ کی اس دنیا میں انسان کو وہاں سے عطا کیا گیا کہ وہ فرشتوں سے بھی افضل ہوا خدا نے اسے اپنا منسلک قرار دیا اور اس دنیا میں ان شرف المخلوقات کہل دیا لیکن یہ سب اپنے اعمال ہی سے ہو سکتا ہے وگرنہ یہی انسان اپنے اعمال سے افضل السافلین میں بھی گر جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانہ میں انسان کی اصلاح کے لیے ان لوگوں کو بھیجا جو اپنے وقت کے اعلیٰ ترین انسان تھے اور جو نبی کہل دئے انبیاء کا دور بڑا ہی باپرکت ہوا کرتا ہے تو میں اس دور کو ترستی میں اور وہ لوگ بڑے ہی خوش نصیب ہوئے ہیں جو اس کا دور دیکھتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں آج عیسائی دنیا کی نظریں آسمان پر ملبی ہیں کہ کب مسیح اپنے دور ثانی میں میں مبعوث ہو یہودی آج بھی دیوار گر یہ کے سامنے کھڑے ہو کر آنسو بہاتے ہیں اور اس دنیا کی اشرار میں ہیں مسلمان بھی اس مہدی کی اشرار میں ہیں جو کسی عار سے پر آمد ہو گا اور اپنی تلوار کے زور سے ساری دنیا کو مسلمان کرے گا ہندو کرشن اور نار کی اشرار میں چشم برآہ ہیں لیکن آج اس کرما زمین پر صرف ایک قوم ہے جس نے اس مسیح کو مانا جس نے آسمان سے اترنا تھا اس مہدی پر ایمان لاتے جس نے عار سے آنا تھا اس کرشن کو دیکھ کر آنکھیں کھنڈی گئیں جو گویا یوں کے درمیان آیا اور وہ قوم ہم ہیں جو احمدی کہل دئے جو دوسروں کی نظروں میں سرراشی بنے اور NOT MUSLIM کا خطاب پایا

ابھی ہم ہیں وہ لوگ جو وہ ہیں جنہوں نے اس انسان کو دیکھا اور ہم وہاں خوش نصیب ہیں جنہوں نے ان لوگوں کو دیکھا جو اس نبی کے قدموں میں بیٹھے اور اس کے دامن سے فیض پایا اور اس عظیم الشان نبی کے ذمہ جو کام سنا یا گیا وہ بظاہر ناممکن نظر آتا ہے ہمیں اس دنیا کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے لانا ہے اور دیکھو خدا نے گوشت کا بھی ٹھکانہ کر دیا کہ میں صدیاں نہیں لڑیں گی کہ یہ دنیا اسلام قبول کرے گی کبھی سوچ کر دیکھیں

یہ نام لکھا کتب ہے کس قدر عظیم ہے کس قدر مشکل ہے صرف اس سہرا کو لکھنا
جان کرنا کون سا زبان ہے اور ہم اس کیلئے کیا کر رہے ہیں کیا ہم اور
ہمیں ہے کہ اس شہر یا ملک کے لوگ خود بخود مسلمان ہو جائیں گے یا نہیں
ہوئے اگر مسلمان کریں گے یا یہ کہ ایک رات ایسی آئیں گی کہ یہ لوگ رات کو
عیدائی سوئے ہوں گے اور صبح کو خدا کی قدرت سے مسلمان ہو جائیں گے
سو اے بھائیو الہیا نہ کہی ہو اور نہ کہی ہو گا یہ بات الہی قانون کے خلاف
ہے خدا انسان کو اچھی فصل جب عطا کرتا ہے جب وہ اپنی زمین پر رحمت کرتا ہے
یوں نہیں کہ خدا کے فضل پر ایمان کر لیا اور صبح اٹھے تو دیکھا کہ انا بے سے
گو دام بھرے ہوئے ہیں سو چنا یہ ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے ۹۹

سب سے اول بات تو یہ ہے کہ ہمیں خود اپنے دین کا علم ہونا چاہیے
ہمیں چاہیے کہ احمدیت کی صداقت کے دلائل سیکھیں احمدی تو یہ بات خوب
جاننا ہے کہ آج علم کلام میں دنیا میں احمدی کے سامنے کسی مذہب کا پیروا نہیں
کھرسکتا۔ چاہیے کہ ہم حضرت مسیح موعودؑ کی کتب کا مطالعہ کریں وہ دلائل
پاؤں گے جو آپ نے کتب میں بیان فرمائے۔ اسی طرح چاہیے کہ ہم اپنے
ساتھ رہنے والے کام کرنے والے افراد کو سچا مذہب اسلام پیش کریں اس

پیارے دین کی سچا پیاں بتلا دیں جن میں بڑا زور ہوتا ہے
اس کے بعد ہم مرکز سے لٹرچر منسٹر اور پیش جو اس ملک کے باشندوں کیلئے
مفید ہو آپ کو سینڈ ڈالرس لٹرچر مل سکتا ہے وہاں کے علم دوست طبقہ
پس تقسیم کریں ضروری نہیں کہ شرک پر کھڑے ہو کر تقسیم کریں بلکہ ڈاک سے
بھجوائیں اور ایک معین عرصہ تک مسلسل بھجوائیں اللہ تعالیٰ برکت دے گا
اور بعید نہیں کہ علم دوستوں میں اسلام کا ~~لکھا~~ چرچا ہو جائے اور لوگ

مسلمان ہونا شروع کر دیں
دستور عزم و دقت بہت کم ہے کام بہت زیادہ اور ہم انتہائی کمزور ہیں جس
خدا کا یہ کام ہے اس کیلئے کوئی مشکل نہیں ہو سکتا ہے وہ ہماری کوششوں
پس برکت ڈال دے مگر یاد رکھیں کہ حرکت ہمیں کرنا ہے اور برکت دینا
ہمیں ان کے ساتھ ہونا چاہیے



گذشتہ ماہ ہم نے عنوان بالا سے ایک نیا کالم شروع کیا اور ارا دہ کیا کہ ہم ان شاء اللہ ہر ماہ ایک حوالہ شائع کریں گے جو دوستوں کی شیلیں گھنٹوں میں مفید ثابت ہو سکتا ہے چنانچہ اس ماہ کے حوالہ میں ہم ایک ضروری سوال اور اس کا جواب شائع کرتے ہیں

سوال :- حضور عالی نے ہزاروں جگہ تحریر فرمایا ہے کہ کلمہ گو اور اہل قبلہ کو کافر کہنا کسی طرح صحیح نہیں بلکہ آپ عبدالحکیم خاں کو لکھتے ہیں کہ ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے اس بیان اور پہلی کتابوں کے بیان میں تناقض ہے آپ تریاق القلوب میں لکھ چکے ہیں کہ میرے نہ ماننے سے کوئی کافر نہیں ہوتا (حقیقۃ الوحی ص ۱۶۷ مطبوعہ ۱۹۵۷ء)

جواب :-

عجیب بات ہے کہ آپ کافر کہنے والے اور نہ ماننے والے کو دو قسم کے انسان ٹھہراتے ہیں حالانکہ خدا کے نزدیک ایک ہی قسم ہے کیونکہ جو شخص مجھے نہیں ماننا وہ اس وجہ سے نہیں ماننا کہ وہ مجھے سفیری قرار دیتا ہے مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا پر افرار کرنے والا سب کافروں سے بڑھ کر کافر ہے۔۔۔۔۔ پس جبکہ میں نے ایک مذہب کے نزدیک خدا پر افرار کیا ہے اس صورت میں نہ صرف میں کافر بلکہ بڑا کافر ہوا اور اگر میں سفیری نہیں تو بلاشبہ وہ کفر اس پر پورے گا

علاوہ اس کے جو مجھے نہیں ماننا وہ خدا اور رسول کو بھی نہیں ماننا کیونکہ میری نسبت خدا اور رسول کی پیش گوئی موجود ہے۔۔۔۔۔ اب جو شخص خدا اور رسول کے بیان کو نہیں ماننا اور قرآن کی تفسیر کرتا ہے وہ مومن کہہ سکتا ہے اور تہلیل اگر وہ مومن ہے تو میں بوجہ افرار کرنے کے کافر ٹھہرا کیونکہ میں ان کی نظر میں سفیری ہوں۔۔۔۔۔ پھر وہ لوگ

تاقب زبیر وی مل پیر لاهور

بجائے خون چمن دامن قرال پہ بھی ہے

کچھ اہام سگر چشم باغبان بھی ہے

تسکایت ستم دشمنان کریں کیوں کر

کچھ اعتبار ہمیں لطف دوستاں پہ بھی ہے

وَمَا كُنَّا لِنَعْبُدُكَ إِلَّا كَمَا نَعْبُدُ آبَاءَنَا

یہ ایک داغ سری عمر ایشیاں پہ بھی ہے

نٹھکا پھیر کے دیکھا ہے توئے دیکھا تو

ہمیں خوشی پیر سے اس لطف سرگراں پہ بھی ہے

ہمیشہ فکر نشین ہیں شرق ہی نہ رہو

چمن کا ٹھوڑا سا حق اہل آیشیاں پہ بھی ہے

پیری نظر بھی ہے بے چین بے دل کی طرح

فسانہ شب بچراں پیری زباں پہ بھی ہے

نہ جائے کیسا رہے اب کے جشنِ فصل بہار

جوڑند گل پہ ہے وما خار طستاں پہ بھی ہے

وہیں وہیں سے کئی آفتاب ابھریں گے

تمہارا نقش کف پا جہاں جہاں پہ بھی ہے

شریک درد جہاں ہے ہمارا دل تاقب

یہ ادرباٹ نظر حسن د لیراں پہ بھی ہے